

برائے فوری اجراء

سٹی آف برامپٹن نے سال 2020 میں اپنی مضبوط AAA کریڈٹ ریٹنگ برقرار رکھی ہے

برامپٹن، آن (16 اکتوبر 2020) – کل **S&P گلوبل** نے مستحکم مالی حالت کی بناء پر سٹی آف برامپٹن کو 2020 کے لیے عطا کی **جانے والی ٹریل 'A' ریٹنگ** کی توثیق کر دی ہے، جو کسی بھی میونسپلٹی کو اس کے مستحکم انداز پر حاصل ہونے والی اعلیٰ ترین ریٹنگ ہو سکتی ہے۔ S&P کے مطابق یہ ریٹنگ سٹی کی مضبوط معاشی و انتظامی پالیسیوں پر عمل درآمد کی عکاسی کرتی ہے جو کووڈ-19 کی وباء کے اثرات سے بحالی میں شہر کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوں گی۔

سرخیان

- S&P نے شہر کی مضبوط کریڈٹ ریٹنگ میں درج ذیل عوامل کو اہم قرار دیا ہے:
- اپنے ہم پلہ شہروں کی نسبت قرض فراہم کرنے کی زیادہ وسیع خدمات کی اپنی غیر معمولی اہلیت کو برقرار رکھنا۔
- اچھی سماجی و اقتصادی اور آبادیاتی خصوصیات، قومی سطح کے مقابلے میں آبادی کی کم اوسط عمر اور صحت مند آبادی میں اضافے، بڑی منڈیوں سے فریب واقع ہونا اور ٹیکسوں کی مسابقتی شرح جو علاقے میں نئے کاروبار اور روزگار کے مواقع کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے۔
- سٹی کی جانب سے متعلقہ معلومات تک آسان رسائی اور زیرتعمیل اور اصل بجٹ کے بارے میں تفصیلات کی فراہمی۔

مستحکم انداز عمل کی درجہ بندی S&P کی اس توقع کی عکاسی کرتی ہے کہ آئندہ دو سالوں میں برامپٹن کی معیشت کی رفتار دوبارہ تیز ہو جائے گی جس کی وجہ سے کووڈ-19 کی پابندیوں میں آسانی ہونے پر سٹی کے بجٹ کی مضبوط کارکردگی اور لیکویڈٹی کی حوصلہ افزاء صورت حال اس کے لیے مفید ثابت ہو گی۔

اقتباسات

"پچھلے دو سال کے دوران ہماری کونسل نے شہر کے مالی معاملات و انتظام کے عمدہ طریقوں کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ تقریباً پچھلے 20 سال میں پہلی مرتبہ ہم نے ٹیکسوں کو دو سالوں تک اپنی سطح پر برقرار رکھا ہے اور قومی ذخائر میں اپنی جانب سے ریکارڈ حصہ ڈالا ہے۔ ہم نے رقم کے درست استعمال کے حوالے سے ایک آڈٹ بھی منعقد کیا ہے جس کے مطابق ہم نے \$7.2 ملین کی خاطر خواہ بچت کی ہے اور مختلف پروجیکٹس پر خرچ کی جانے والی رقم میں سے \$10.5 ملین کی خطیر رقم کو نئی ترغیبات کے لیے استعمال ہونے کے طور پر شناخت کی گیا ہے۔ ہم برامپٹن کو بہتر نظم و نسق سے چلایا جانے والا شہر بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے اور عالمی وباء سے بحالی میں ہر ممکن مدد دیتے رہے گے۔"

– پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"وبائی امراض کے آغاز سے قبل ہماری کی جانے والی کوششوں سے شہر کے ذخائر میں اضافہ ہوا اور ہماری مالی حیثیت کو مستحکم کرنے میں مدد ملی تھی، جو آج ان بے مثال مسائل کا سامنا کرنے میں ہمارے لیے معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ انوویشن کوریڈور پر واقع کینیڈا میں تیزی سے ترقی پذیر شہروں میں سے ایک ہونے کی حیثیت سے، برامپٹن اب ترقی کا ایک اہم مرکز بن چکا ہے جو ہنر اور متنوع آبادی کے لیے سازگار ماحول مہیا کر رہا ہے۔"

– برکیرات سنگھ، سٹی کونسلر وارڈز 9 اور 10؛ چیئر، کوآپریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن

"ہم نے اپنی جانب سے بھرپور کوشش کی ہے کہ ہم اپنے کاموں کو جدید بناتے ہوئے اور قیمتوں میں توازن برقرار رکھتے ہوئے شہر کو موثر انداز میں چلائیں۔ برامپٹن کی ترقی میں اضافہ اور اپنے رہائشیوں، کاروباروں اور سرمایہ کاروں کو بہتر معاونت کی فراہمی ہماری توجہ کا مرکز ہے، خاص طور پر جب ہم کووڈ-19 کے مضر اثرات سے بحالی کی جانب گامزن ہیں۔ ہم بلاشبہ اعلیٰ خدمات اور شاندار مالی معاونت کی فراہمی کے لیے پرعزم ہیں۔"

– ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

--30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca